

عزیزی والدین یا سرپرست:

آپ کے بچے کی صحت ہمارے لیے اہم ہے۔ نیویارک شہر پبلک اسکولوں میں، صحت کی تعلیم کی کلاسوں میں تشدد اور ضرر لگنے سے بچاؤ؛ جذباتی اور ذہنی صحت؛ غذائیت اور جسمانی سرگرمی؛ تمباکو، الکوحل اور دیگر منشیات؛ خاندانی صحت اور جنسیت؛ HIV/AIDS؛ اور ذاتی اور صارف کی صحت پر صلاحیتیں اور اسباق شامل ہیں۔ مئیر de Blasio کے نئے ہیلتھ ایڈ ورکس آغاز کار میں 24 ملین کی سرمایہ کاری DOE کی طلبا کی صحت کے لیے پُر عظمیٰ کو ہمارے تمام اسکولوں میں صحت کی تعلیم میں مدد کو بڑھا کر مستحکم کرے گی۔

نیویارک ریاست محکمہ تعلیم (NYSED) مڈل اور ہائی اسکول دونوں میں ایک سمسٹر کے لیے جامع صحت کی تعلیم کے کورس کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس کلاس میں طلبا سیکھتے ہیں کہ صحت مند زندگی کس طرح گزاری جائے اور خطرناک طرز عمل میں مشغول ہونے سے کیسے بچا جائے۔ مڈل اور ہائی اسکول میں صحت کی تعلیم میں جنسی صحت کے متعلق اسباق شامل ہوتے ہیں جو آپ کے بچے کی عمر کے متناسب ہیں۔ یہ گریڈز K-12 میں سالانہ ریاستی لازمی HIV/AIDS کے بارے میں اسباق کے علاوہ ہے۔

جنسی صحت کے اسباق طلبا کو درست طبی معلومات اور ابلاغی صلاحیتیں فراہم کرتے ہیں تاکہ انہیں صحت مند فیصلے کرنے میں مدد ملے جو انہیں صحت مند اور محفوظ رکھیں۔ ہمارا مشترکہ ہدف اسکول عمر کے بچوں میں جنسی سرگرمی میں تاخیر کرنا ہے۔


ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے طلبا اور ان کے خاندانوں کے مختلف عقائد، ثقافتیں اور رواج ہیں۔ یہ خاندانی اقدار آپ کے بچے کی زندگی کے لیے بنیادی، اہم رہنما خطوط ہیں۔ بطور ایک والدین / سرپرست کے، آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اپنے بچے کو کچھ اسباق سے باہر نکلوالیں جو ضبط تولید اور HIV/جنسی طور پر منتقل کردہ انفیکشنز (STI) سے بچاؤ کے طریقوں کے بارے میں ہیں۔ آپ اپنے بچے کو مباشرت سے اجتناب یا دیگر جنسی صحت کی تعلیم کی کلاسوں سے نہیں ہٹا سکتے۔ اگر آپ کے اس بارے میں سوال ہیں کہ آپ کن اسباق سے اپنے بچے کو اوپٹ آؤٹ کرسکتے ہیں، براہ کرم اپنے بچے کے اسکول کے پرنسپل، والدین رابطہ کار، یا صحت کی تعلیم کے استاد سے بات کریں۔

اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کو ضبط تولید اور HIV/STI سے بچاؤ کے اسباق سے استثنیٰ کر دیا جائے، اپنے بچے کے پرنسپل کو ایک خط لکھیں۔ خط میں بیان کیا جائے کہ:

- آپ کے بچے کو ضبط تولید اور HIV/STI سے بچاؤ کے طریقوں کے اسباق کے دوران کلاس روم میں نہیں ہونا چاہیئے؛ اور
- آپ اپنے بچے کو بچاؤ کے بارے میں گھر پر تدریس فراہم کریں گے۔

جیسا کہ تمام شعبوں میں ہے، والدین اور سرپرست بچے کے اولین اور با اثر ترین اساتذہ ہوتے ہیں۔ والدین، سرپرست اور اساتذہ ایک مشترکہ ہدف رکھتے ہیں: ہم چاہتے ہیں کہ ہر عمر کے طلبا اپنی زندگیوں کے ہر پہلو میں صحت مند رہیں۔ اپنے بچے سے پوچھیں کہ وہ صحت کی تعلیم کی کلاسوں میں تمام اسباق میں کیا سیکھ رہا ہے، نہ کہ صرف جنسی صحت سے متعلقہ اسباق میں۔ اگر آپ اپنے بچے کی صحت کی تعلیم کی کلاس کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں، اپنے بچے کے پرنسپل اور اساتذہ سے بات کریں۔ اسکے علاوہ، یقینی بنائیں کہ آپ کا بچہ جانتا ہے کہ ایک صحت مند زندگی گزارنے کے بہترین طریقے کیا ہیں۔

مخلص،



Richard A. Carranza